

نسلی مساوات کے فروغ کے لیے موجودہ اور مجوزہ اقدامات

دی لینڈ رجسٹری

لینڈ رجسٹری ہانگ کانگ میں زمین کو متاثر کرنے والے آلات کے اندراج اور زمین کے اندراج کے قانون (شق 128) (LRO) اور زمین کے اندراج کے ضوابط (شق 128A) (LRR) کے تحت عوامی تلاش کے لیے اراضی کے ریکارڈ کی فراہمی کے لیے ایک عوامی دفتر ہے۔ مالکان کی کارپوریشنز (OCs) کے اندراج، OCs کی طرف سے جمع کرائے گئے ضروری دستاویزات کی فائلنگ اور قانون برائے انتظام عمارات (شق 344) (BMO) کے تحت OC ریکارڈوں کی تلاش کی خدمات فراہم کرنے کے بھی ہم ذمہ دار ہیں۔ ہم ان کے نسلی اور گروہی پس منظر سے قطع نظر، عوام کے سب اراکین کی متعلقہ خدمات تک یکساں رسائی کو یقینی بنانے کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔

- متعلقہ خدمات لینڈ رجسٹری ایسے آلات کو رجسٹر کرے گی جو LRO اور LRR کی تعمیل کرتے ہیں۔ عوام اراضی کے رجسٹروں کی تلاش اور اراضی کے ریکارڈ کی نقول کے لیے مربوط اندراج شدہ معلومات کے نظام (IRIS) کی آن لائن سہولیات (www.iris.gov.hk) کے ذریعہ یا کسٹمر سینٹر یا یا ہمارے کسی بھی نیو ٹیریٹریز دفاتر برائے تلاشی (مجموعی طور پر "لینڈ رجسٹری دفاتر") سے درخواست کر سکتے ہیں

(www.landreg.gov.hk/en/contact/contact_2.htm)

- BMO کے تحت مقررہ انتظامی کمیٹیاں OCs کے اندراج کے لیے لینڈ رجسٹرار کو درخواست دے سکتی ہیں۔ OCs کی انتظامی کمیٹیوں کے سیکرٹریز BMO کے تحت جس کسی بھی دستاویز کو لینڈ رجسٹرار کے پاس جمع کروانا ضروری ہوگا اس کو فائل کریں گے۔ عوام متعلقہ لینڈ رجسٹری کے دفاتر سے OC ریکارڈز تلاش کر سکتے ہیں۔

- موجودہ اقدامات لینڈ رجسٹری خدمات کی فراہمی میں چینی اور / یا انگریزی میں عوام کے ساتھ بات چیت کرتی ہے۔ عوام کے لیے تمام طباعت شدہ معلومات (بشمول معلوماتی کتابچے، درخواست فارم وغیرہ) اور محکمہ اور IRIS کی آن لائن سہولیات کی ویب سائٹوں پر معلومات چینی اور انگریزی دونوں زبانوں میں موجود ہیں۔

- ضرورت پڑنے پر نسلی اقلیتی مرکز (CHEER) کے ذریعہ ترجمان کی خدمت کا اہتمام کیا جائے گا۔ CHEER اٹھ زبانوں میں ترجمہ کی

خدمات فراہم کرتا ہے، یعنی بھاسا انڈونیشیا، ہندی، نیپالی، پنجابی، اردو، تگالوگ، تھائی اور ویتنامی۔

- مستقبل کے کام کا جائزہ
مستقل بہتری کے لیے وقتاً فوقتاً اقدامات پر نظر ثانی کی جاتی ہے۔ صارفین کے تاثرات/تجاویز، اگر کوئی ہوتے ہیں تو، انہیں مدنظر رکھا جاتا ہے اور اس کا جائزہ لیا جاتا ہے تاکہ یہ معلوم کیا جاسکے کہ جہاں ضروری اور مناسب ہو وہاں مزید بہتری لائی جاسکے۔
- کئے گئے / کئے جانے والے اضافی اقدامات
ہم متعلقہ تنظیموں جیسے کمیشن برائے یکساں مواقع، کانسٹی چیوشنل اینڈ مین لینڈ افیئرز بیورو، سول سروس کالج وغیرہ کے ذریعہ فراہم کردہ مناسب تربیتی کورسز میں عملے کی شرکت کا انتظام کرتے رہیں گے تاکہ ان کی نسلی اور گروہی مساوات کے بارے میں آگاہی اور سمجھ بوجھ کو بڑھایا جاسکے۔

نسلی مساوات کے فروغ سے متعلق مندرجہ بالا اقدامات کے بارے میں معلومات کے لیے براہ کرم درج ذیل ذرائع سے ہماری کسٹمر سروس مینیجر، Miss Cherie CHOW (محترمہ شیری چاؤ) سے رابطہ کریں۔

ٹیلیفون نمبر : 31050000
فیکس نمبر : 25960281
ای میل : csa@landreg.gov.hk
ڈاک کا پتہ : The Land Registry
28th Floor, Queensway Government Offices
66 Queensway
Hong Kong

دی لینڈ رجسٹری
مئی 2025